

مشق نمبر ۶۵

مندرجہ ذیل افعال کی صرف صغیر کریں۔ فعل امر کی تمام ممکنہ صورتیں لکھیں۔

مصدر	اسم المفعول	اسم الفاعل	مضارع	ماضی	فعل لازم
ضَلَّ	ضَلَالَةٌ	ضَالٌ	يُضِلُّ	ضَلَّ	ضَلَّ
					فعل امر
					أَضِلُّ - ضَلَّ - لَا تُضِلُّ
					فعل لازم
ظَلَّ	ظُلَّةٌ	ظَالٌ	يُظِلُّ	ظَلَّ	ظَلَّ
					فعل امر
					أُظِلُّ - ظَلَّ - لَا تُظِلُّ - لَا تَظَلُّ
					فعل لازم
عَدَّ	عَدْوٌ	عَادٌ	يَعُدُّ	عَدَّ	عَدَّ
					فعل امر
					أَعُدُّ - عَدَّ - لَا تُعَدُّ

مندرجہ ذیل اسماء اور افعال کی اقسام، مادہ، باب اور صیغہ بتائیں۔

صیغہ	باب	مادہ	اقسام	وزن	اسماء و افعال
واحد تکلم	(ض)	ظ ل ل	ماضی معروف	فَعَلْتُ	۱ ظَلَّ
جمع مذکر حاضرہ	(ن)	ع د د	مضارع معروف	تَفْعَلُونَ	۲ عَدَّ
جمع تکلم	تَفْعِيلٌ	ظ ل ل	ماضی معروف	فَعَلْنَا	۳ ظَلَّ
واحد تکلم	(ض)	ض ل ل	مضارع معروف	أَفْعِلْ	۴ اُضِلُّ

اسماء اور افعال	وزن	اقسام	مادہ	باب	صیغہ
۵ فَرَرْتُمْ	فَعَلْتُمْ	ماضی معروف	ف ر ر	(رض)	جمع مذکر حاضر
۶ يَظَلُّ	اسم	اسم	ظ ل ل	(رض)	واحد مذکر
۷ ضَارٌّ	فَاعِلٌ	اسم الفاعل	ض ر ر	(ن)	واحد مذکر
۸ فِرَّوْا	افْعَلُوا	فعل امر	ف ر ر	(رض)	جمع مذکر حاضر
۹ مُضِلٌّ	مُفْعِلٌ	اسم الفاعل	ض ل ل (رض)	افعال	واحد مذکر
۱۰ تَشْتَقُّ	تَشَفَّعٌ	مضارع معروف	ش ق ق	تفاعل	واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر
۱۱ اَظُنُّ	اَفْعَلُ	مضارع معروف	ظ ن ن	(ن)	واحد متکلم
۱۲ ضَالٌّ	فَاعِلٌ	اسم الفاعل	ض ل ل	(رض)	واحد مذکر
۱۳ تَرُدُّونَ	تَفْعَلُونَ	مضارع مجهول	ر د د	(ن)	جمع مذکر حاضر
۱۴ اَعَدَّ	اَفْعَلٌ	ماضی معروف	ع د د (ن)	افعال	واحد مذکر غائب
۱۵ شَاقُّوا	فَاعَلُوا	ماضی معروف	ش ق ق	مفاعله	جمع مذکر غائب
۱۶ حَاجُّونَ	تَفَاعِلُونَ	مضارع معروف	ح ج ج	مفاعله	جمع مذکر حاضر
۱۷ اَضَلُّوا	اَفْعَلُوا	ماضی معروف	ض ل ل (رض)	افعال	جمع مذکر غائب
۱۸ اَعْدَّتْ	اَفْعَلَتْ	ماضی مجهول	ع د د (ن)	افعال	واحد مؤنث غائب
۱۹ شَقَّاقٌ	فِعَالٌ	مصدر	ش ق ق	مفاعله	واحد
۲۰ لَعَزُّ	تَفْعِلُ	مضارع معروف	ع ز ز	افعال	واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر
۲۱ حَجَّةٌ	فُعَلَةٌ	اسم	ح ج ج	(ن)	واحد مؤنث

(۶۵/۳)

مندرجہ ذیل قرآنی عبارتوں کا ترجمہ کریں۔

۱ وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرہ: ۱۰۲)

واو حرف ضمیر بنا مجرور شبہ جملہ کلمہ خبر مجرور (مربک اضافی)
نفی مذوقہ زائدہ صفت ۱ شبہ جملہ صفت ۲ متعلق خبر (مستثنیٰ بنفہ + مستثنیٰ)
حالیہ مبتداء + قائم مقام خبر متعلق خبر (مستثنیٰ بنفہ + مستثنیٰ) = جملہ فعلیہ نافیہ

ترجمہ:

اور وہ نہیں تھے ضرر پہنچانے والے کسی ایک کو اس کے ساتھ ملکر اللہ کے حکم سے۔

۲ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرہ: ۱۸۵)

حرف اسم فعل ناقص منصوب حرف خبر مجرور اسم مرفوع خبر + مجرور (مربک توصیفی)
عطف اسم کان ہو خبر کان عطف شبہ جملہ مبتداء صفت عِدَّة
موصولہ + صلہ (جملہ اسمیہ) جملہ اسمیہ (خبر محذوف)

Samra Khalil Uppal

ترجمہ:

اور جو کوئی بھی تم میں سے، مریض ہو یا سفر پر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔

۳ وَ تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِ اللَّهِ (آل عمران: ۲۶)

حرف مضارع موصولہ + صلہ (مضارع) مضارع موصولہ + صلہ خبر + مجرور معرفہ
عطف مضارع موصولہ + صلہ (مضارع) مضارع موصولہ + صلہ خبر مقدم + مبتداء مؤخر

ترجمہ:

اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

فعل امر
 حرف فعل ماضی فعل ۹ اسم منصوب حرف فعل ۹ ضمید فعل ۱۰ ضمید اسم مرفوع
 شرط (انتم) مضارع جواب امر مفعول مضارع مفعول (افعال) فاعل
 (جمله فعلیہ شرطیہ) (جواب شرط) (جمله فعلیہ جزائیہ) - مقول

ترجمہ: وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (آل عمران: ۳۱)

حرف مضارع ۱ خبر مجزوم (مركب اضافی) منصوب
 عطف مجزوم
 (هو) + متعلق فعل + مفعول به

جمله فعلیہ جزائیہ - مقول

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔

۵ لِلَّهِ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُكْمٌ يُخْتَصَمُ بِهِ الرُّسُلُ (النساء: ۱۴۵)

ر + آن + لَدَّ فعل ۱ خبر مجزوم اسم مرفوع طرف + مضاف الیه
 خبر مجزوم
 قائم مقام خبر مقدم متعلق خبر + اسم مکان + متعلق خبر - جمله اسمیہ

ترجمہ:

تاکہ نہ ہو لوگوں کیلئے اللہ کے اوپر رسولوں کے بعد کوئی محنت۔

۶ وَ لَدَّ تَرْتَدُّوا عَلٰی اَدْبَارِكُمْ (المائدہ، ۲۱)

حرف لاء فعل مضارع جبر + مجرور (مضاف الیہ)
ہی مجزوم
استیفاء انتعال (انتم) + متعلق فعل . جملہ فعلیہ ناپیہ

ترجمہ:

اور تم سب اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا۔

۷ وَ لَدَّ تَبَيَّحُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ اَصْلُوا كَثِيْرًا (المائدہ، ۷۷)

حرف لاء فعل مضارع مرکب اضافی حرف فعل ماضی جبر مجرور حرف فعل ماضی اسم منصوب
ہی مجزوم
عطف انتعال (انتم) + مفعول بہ
عطف ماضی
عطف متعلق فعل
عطف ماضی
عطف مفعول
عطف مطلق (انتم) مطلق

جملہ فعلیہ

جملہ فعلیہ

جملہ فعلیہ ناپیہ

ترجمہ:

اور تم کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یقیناً وہ
اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سے دوسروں
کو بھی گمراہ کیا۔

۸ وَ اِنْ سَأَسْتَكَّ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ (الانعام: ۱۷)

حرف حرف فعل مضارع ضمیر اسم جبر مجرور حرف + اسم جبر و کلمہ ضمیر منفصلہ
عطف مفعول مدفع متعلق جواب لاء
عطف + فاعل + فعل شرط
عطف ماضی جنس
عطف شرط

جملہ اسمیہ جواب شرط

جملہ فعلیہ شرطیہ

ترجمہ:-

اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔

(۶۵/۶)


۹ وَ حَاجَّهُ قَوْمَهُ ۖ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ (الانعام: ۸۰)

حرف فعل ماضی ضمیر مرکب فعل ماضی حرف فعل مضارع ضمیر جر مجرور
اضافی
مفاعله + مفعول + فاعل
استفہام + مفاعله + مفعول + فاعل
(ہو) استفہام + مفاعله + مفعول + فاعل
تعلق

جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ استفہامیہ (مقول)

ترجمہ:

اور اُسکی قوم نے اُس کے ساتھ جھگڑا کیا، اُس نے کہا
کیا تم سب مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟



۱۰ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ (التوبة: ۱۹)

فعل ماضی اسم مرفوع جر مجرور اسم منصوب
متعلق
افعال + فاعل + فعل + مفعول بہ = جملہ فعلیہ

ترجمہ:

اللہ نے اُن کے لیے جنتوں کو تیار رکھا ہے۔

۱۱ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ (یونس: ۱۰۷)

حرف حرف اسم منصوب جر مجرور (مرکب اضافی)
عطف لفظی
بنداء + قائم مقام خبر = جملہ اسمیہ نافیہ
جس

ترجمہ:

تو کوئی اُسکے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔

(۷/۴۵)

۱۲ وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ (الرعد: ۳)

حرف ضمید منفصلہ اسم فعل ماضی + مفعول بہ
عطف مرفوعہ موصولہ + صلہ
مقتداء + خب = جملہ اسمیہ

ترجمہ:

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔

۱۳ وَ يَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاوُ (الفرقان: ۲۵)

حرف اسم منصوب فعل مضارع اسم مرفوع
عطف مفعول فیہ + تَفَعَّلَ + فاعل = جملہ فعلیہ

ترجمہ:

اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا

۱۴ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْأَبْصَارَ (الفرقان: ۲۵)

حرف جارم مضارع خبر + خبر و مرکب
اسم فعل ماضی اسم منصوب
استفہام (ہو) + مفعول بہ
استفہام + نفی + انت + متعلق فعل

جملہ فعلیہ استفہامیہ جملہ فعلیہ استفہامیہ

ترجمہ:

کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا، کہ اُس نے
کیسے پھیلائے سائے؟

۱۵ وَ لَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا (المحجرات ۷۱)

حرف ہرف اسم منصوب فعل ماضی خبر مجرور اسم منصوب
عطف بالفعل اسم لکن + خبر لکن = جملہ اسمیہ

ترجمہ

اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔

۱۴ فَيَسِّرُوا إِلَى اللَّهِ (الذاریات ۵۰)



حرف فعل امر خبر مجرور

عطف انتم + متعلق فعل = جملہ فعلیہ امر

ترجمہ

پس اللہ کی طرف دوڑو